



مصروفیت کیلئے تجویز کردہ تحریر

- اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی برادریوں کو محفوظ ، تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پر متحرک رکھیں اور ہمیشہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہیں۔
- مگر یہ اس وقت ہی ممکن اور بہتر ثابت ہو سکتا ہے جب لوگ، ہمارے خلوص نیت اور از ضمن میں ہماری کاوشوں کو محسوس کریں، لیکن اگر آپ اس تحریر کو صرف سرسری طور پر پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ موثر نہیں ہوگا۔
- مثال کے طور پر اس تحریر کے نتیجہ میں ہونے والی کالوں کا دورانیہ 20 سے 25 منٹ کا ہو سکتا ہے
- اسکے علاوہ ہم اپنے آرا اور افکار سے اتفاق رکھنے والوں کو اپنی برادریوں اور سماج کے ساتھ ہماری تحاریر بانٹتے، ان سے سازگاری اور استعمال کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

رابطے ۲ منٹ

1. ڈرم اور انکی جانب سے اپنا تعارف کرائیے، اس مشکل اور سخت وقت میں لوگوں تک "بحرانی دور میں عوام کے لئے انصاف اور حفاظت کی فراہمی" کے لئے رسائی حاصل کریں کہ
2. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ محفوظ ہیں؟ کیا آپ خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں؟

حفاظت ۷ منٹ

1. کیا آپ محفوظ رہنے کے بہترین طریقوں سے واقف ہیں

- آپ دو طریقے سے بیمار ہوسکتے ہیں:

1) جب آپ کسی ایسی عام سطح کو چھوتے ہیں جس کو کسی دوسرے بیمار شخص نے ان پر چھینکنے یا کھانسی کرنے کے علاوہ اسے چھوا بھی ہو جیسے کہ (لفٹ کے بٹن، دروازے کے ہینڈل ، نقدی وغیرہ) اور پھر آپ اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے چہرے، منہ، ناک یا آنکھوں کو چھوتے ہیں۔

2) جب کوئی بیمار شخص جو ایسی فضا میں چھینکے، کھانسی، اسکے پئے ہوئے سگریٹ کے دھوئیں یا سانس میں لی ہوئی دوائی نکال رہا ہو یا پھر وہ آپ کے چہرے کے بہت قریب گفتگو کرے اور آپ اس ہوا میں فوری طور پر یا بعد میں بھی سانس لیں۔

- بیماری سے بچنے کیلئے تین چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے

a. **اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھیں۔** کم از کم ۲۰ سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کے تمام حصوں کو اچھی طرح رگڑ کے دھویئے۔ صابن نہایت موثر طریقے سے جراثیم کو مار دیتا ہے۔ گھر سے باہر ہمیشہ دستانے پہنے رکھیئے۔ دستانوں کو کبھی بھی دوبار استعمال نہ کریں۔ ایسی سطحوں کو جو بہت زیادہ عوام کے استعمال میں آتی ہوں جیسا کہ لفٹ کے بٹن، دروازے کے ہینڈل ، نقدی، اے ٹی ایم مشین، بسوں اور ٹرین کے پول اور کھیل کے میدان کے پول وغیرہ کو چھونے سے احتراز کریں اور اگر ہم ایسی جگہوں کو چھو بھی لیتے ہیں تو فوراً ہمیں اپنے ہاتھ دھو لینے چاہئیں یا ہاتھ اور دستانوں کو جراثیم کش محلول سے صاف کر لینے چاہئیں۔ اپنے چہرے کو قطعاً اس وقت تک نہیں چھونا جب تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو نہ لیا ہو۔ اپنے استعمال شدہ دستانوں کو فوراً تلف کر دیں کیونکہ وہ بھی صحت کے لیے زیان آور ہو سکتے ہیں۔

b. **اپنے چہرے کو محفوظ رکھیں۔** گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں۔ چہرے کی حفاظت کے لیے جراحی کے دوران استعمال ہونے والا ماسک بہترین ہوتا ہے اور اگر یہ ماسک دستیاب نہ ہو تو کپڑے کا بنایا ہوا ماسک یا رومال بھی آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ماسک آپ کو بلاضرورت اپنا چہرہ چھونے اور کسی مریض شخص کے ہوا میں کھانسنے یا چھینکنے کی وجہ سے موجود جراثیم سے آپ کو محفوظ رکھتا

ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض موجود ہے تو گھر میں ایسے تمام ایریا جو سب مشترکہ استعمال کرتے ہیں ماسک پہننا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مناسب تعداد میں ماسک نہیں ہے تو اپنے استعمال شدہ ماسک کو اہلتے ہوئے پانی کے بھاپ کے اوپر دس منٹ تک پکڑے رکھ کر اسے عفونت سے پاک کر سکتے ہیں۔ ماسک کا باہری حصہ ہمیشہ عفونت زدہ ہوتا ہے اور اسی حصے کو عفونت سے پاک کر کے دوبارہ استعمال کریں۔ پھٹے پرانے ماسک کو ہمیشہ تلف کریں کیونکہ اس سے بیماری پھیل سکتی ہے۔

c. **دوسروں سے ہمیشہ فاصلہ رکھیں۔** ہمیشہ گھر میں رہیں اور دوسروں سے مناسب فاصلہ بر جگہ پر برقرار رکھا کریں۔ فقط نہایت ہی ضروری کاموں کے لئے باہر جائیں۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو ایک دوسرے سے ۶ فیٹ سے زیادہ کا فاصلہ رکھیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننا نہ بھولیں۔ ایسی فضا میں جہاں مختلف لوگوں نے سانس لی ہوں وہاں ماسک کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ باہر سے اشیائے خوردونوش اور سودا سلف لانے کے لیے صرف ایک ہی شخص کی ذمہ داری لگائیں۔ کسی بھی معمر یا بیمار شخص کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ہرگز نہ سونپیں۔

○ اگر آپ یا گھر کا کوئی دوسرا فرد بیمار پڑ جاتا ہے تو

۱ - ان کو جلد اپنے آپ ہی گھر کے اندر، خاندان کے باقی افراد سے الگ تھلگ کر دینا چاہئے۔

۲۔ فون نمبر ۳۱۱ یا 1-844-NYC-4NYC کو مطلع کر کے ان سے اگلا قدم اٹھانے کے لئے معلومات حاصل کرنی چاہئے۔ کسی بھی صورت میں مریض کو ایمرجنسی میں نہیں لے کر جانا چاہئے۔ ایسا کرنے سے آپ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ آپ کو فون پر ہی اگلا قدم اٹھانے کے بارے میں بتا دیا جائیگا۔

- سانس لینے میں دشواری کی علامات کی صورت میں فوری توجہ حاصل کرنے لیے نمبر ۹۱۱ پر فون ملائیں۔

۳۔ اگر آپکو یا آپکے کسی جاننے والوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اسے باقی لوگوں سے ہرگز نہ چھپائیں۔ اپنے تمام جاننے والوں

کو جن سے آپ ایک ہفتہ پہلے ملے تھے فوراً فون کر کے اپنے بیماری کے بارے میں مطلع کریں۔ تاکہ ہم ایک دوسرے کو اس مرض سے محفوظ رکھ سکیں۔

۴۔ اگر آپ اپنے کسی ہمسائے یا کسی اور شخص کے بارے میں جانتے ہوں جو کہ بیمار ہیں، ان سے معلوم کریں کہ انہیں کس قسم کی مدد درکار ہے یا نہیں۔ اگر انہیں غذائی مواد یا دوا کی ضرورت ہو تو آپ انکی اشیائے ضرورت انکے گھر کی ڈیلیز پر رکھ کر انہیں اطلاع کر سکتے ہیں۔ اس دشوار وقت میں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔

آگاہی اور تعلیم – ۷ منٹ

1. ایک چیز جس کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں اور سماج میں بہت سی غلط معلومات کا پایا جانا یا درست معلومات کا فقدان ہے۔ آپ کن چیزوں کے بارے میں فکر مند ہیں یا وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے؟

○ تعطیلات یا بندش

- نیویورک شہر میں موجودہ حالات کے تناظر میں عمومی تعطیلات کم از کم ۳۰ مئی تک ہوسکتی ہیں مگر ضرورت کے تحت اس تعطیلات کو طول بھی دیا جاسکتا ہے۔
- شہر میں زیادہ تر کاروبار بند ہیں ماسوائے نہایت اہمیت کے حامل جگہوں کے جن میں اشیائے خوردونوش کی فراہمی کے مراکز، دواخانے اور ہسپتال وغیرہ شامل ہیں۔
- لوگوں کو غیر ضروری اجتماعات سے گریز کرنا چاہئے
- اگر اشیائے خوردونوش یا مریض کے لئے دوا کی خریداری کے لئے آپ کا گھر سے باہر جانا ناگزیر ہے تو باہر جاتے وقت آپ کو ماسک اور دستانوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔

○ ملازمت۔

■ فی الوقت اگر آپ کہیں پر ملازم ہیں تو

1. اگر آپ کے پاس قانونی دستاویزات ہیں تو آپ بیروزگاری الاونس کے لئے درخواست دینے کے اہل ہیں۔
- آپ کو <https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/> اس دیئے گئے ویب سائٹ پر درخواست جمع کرنا ہوگا۔

■ آپ فون پر بھی اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں جنکی تفصیل درج ذیل ہے۔

فون نمبر: 888-209-8124

سوموار تا جمعہ: صبح ۸ تا شام ۳۰/۷ بجے

ہفتہ اور اتوار: صبح ۳۰/۷ تا شام ۸ بجے

■ اس بارے میں کسی بھی اضافی معلومات کے ضرورت کی صورت میں ہمیں آگاہ کریں۔

2. بغیر قانونی دستاویزات کے حامل افراد بیروزگاری الاونس کے لئے درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔

■ ڈرم در حال حاضر بغیر قانونی دستاویزات کے حامل افراد کی فلاح کے لئے کوئی راستہ نکالنے کی کاوشوں میں مصروف ہے۔

○ رہائش

■ ریاستی حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ گھر مالکان کو اگلے تین ماہ تک اپنے گھروں کے رہن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

1. اگر آپ مکان مالک ہیں تو اپنے بینک کو کال کریں تا کہ آپ اپنے رہن کی ادائیگی کو معطل کر پائیں

2. اگر آپ کرایہ دار ہیں، تو اپنے مکان مالک سے کہیں کہ وہ رہن کی رقم ادھار دینے والے سے رابطہ کریں اور ان سے رہن کی ادائیگی کو معطل یا منجمد کرا سکیں۔

■ کم از کم ۲۰ جون تک کسی کو بھی گھر سے بیدخل نہیں کیا جا سکتا۔

■ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی جمع پونجی میں بہت زیادہ رقم نہیں ہے تو لازم ہے کہ آپ کو اپنی ضروری چیزوں کے لئے اپنی رقم بچانی چاہئیں نہ کہ اسے کرایہ کی ادائیگی پر صرف کرنا چاہیئے۔

1. دوسرے کرایہ داروں سے بھی بات کریں اور گھر مالکان کو کرایہ ادا نہ کرنے پر رضامند کریں۔

2. بہت سے کرایہ دار کرایہ کی ادائیگی کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں۔

3. اگر آپ کرایہ کی ادائیگی کے خلاف اپنے ساتھی کرایہ داروں سمیت ہڑتال کو منظم بنانے کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں کے بارے میں چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں۔

4. کرایہ کی ادائیگی کے خلاف ہڑتال کی مزید معلومات <https://t.co/ChKHytVluO> اس سائٹ سے لی جاسکتی ہے۔

■ ڈرم اور بہت ساری دوسری تنظیمیں کرایہ منسوخ کرنے کے لئے (رہن اور یوٹیلیٹی بل سمیت) ایک قانون پاس کرانے کے بل پر کام کر رہی ہیں۔

■ اگر آپ کا مکان مالک بھی غریب ہے اور اس کی زندگی کا انحصار کرایے سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہے یا اسے اپنے بلوں کی ادائیگی بھی اسی رقم سے کرنا ہے تو انکے ساتھ جزوی ادائیگی یا بعد میں یکمشت ادائیگی کے منصوبے کے لئے ان کے ساتھ معاہدہ کریں۔ کیونکہ ہمیں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔

○ کھانا اور اشیائے خوردونوش

■ اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو رہی ہیں اور آپ کو اشیائے خوردونوش کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو آپ کی رہائشی علاقے کی بنیاد پر اس سلسلے میں معلومات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اسکی تین قسمیں ہیں۔

1. **صحت مند لوگ:** وہ لوگوں جو صحت مند ہیں اور باہر جا سکتے ہیں، انہیں شہر کے مختلف حصوں میں کھانے کی فراہمی کے پروگراموں سے کھانا لینا چاہئے۔ یہاں بہت سارے اسکولوں میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے جس میں سبزی جات اور حلال کھانے بھی شامل ہیں۔ <http://nyc.gov/getfood>

2. **گھر سے باہر نہ جا پانے والے لوگ:** اگر آپ بیمار ہیں اور گھر سے نکلنا آپ کے لئے ممکن نہیں مگر آپ گھر کے اندر کھانا پکا سکتے ہیں تو اس صورت میں امدادی کارکن آپکو آپ کے گھر کی دھلیز پر اشیائے خوردونوش فراہم کرسکتے ہیں۔ مگر ذہن میں رکھئیے کہ یہ سارے انتظامات کرنا کافی دشوار کام ہے۔

3. **بیمار لوگ:** اگر آپ بیمار ہیں یا کمزور اور نحیف ہیں اور کھانا پکانے سے قاصر ہیں تو اس صورت میں ہم آپ کو تیار اور آمادہ کھانا آپکے گھر پر فراہم کرسکتے ہیں۔

- فی الوقت بہت سے لوگوں کو کھانے کے لئے مدد کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو مذکورہ بالا رہنما اصولوں کی بنیاد پر مدد لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- اگر آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کی ضرور مدد کی جائے گی۔

○ صحت اور تندرستی

■ کرونا وائرس

1. کرونا وائرس کے مرض کی تشخیص کرنا مشکل ہے لیکن یہ مفت انجام دیا جاتا ہے۔

2. فی الوقت، کورنا وائرس کے علاج کے اخراجات کی کوئی کوریج نہیں ہے۔
3. اگر آپ کو اس بیماری کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تو، آپ 311 یا 844-692-4692 پر کال کر کے تشخیص کیے جانے والے مقامات کے بارے میں معلومات کرسکتے ہیں۔

- اگر آپ کو صحت عامہ کے ادارہ تک رسائی درکار ہے اور آپ کے پاس کوئی بیمہ پلان نہیں یا ان تک رسائی حاصل نہیں ہے تو آپ صحت عامہ کے بارے میں شہری حکومت کے پروگرام تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ براہ کرم فون نمبر 646-692-2273 پر کال کریں۔
- اگر آپ کو دماغی ادارہ صحت تک رسائی کی ضرورت ہے تو فون نمبر 9355-888-692 پر کال کریں۔

○ امیگریشن

- ICE کا ادارہ حسب سابق قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کے خلاف اپنے چھاپہ مارنے کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فی الحال یہ نہیں معلوم کی اسکی شدت میں کمی ہوئی ہے یا نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ چھاپوں کا سلسلہ ابھی تک برقرار ہے۔

○ سکول:

- موجودہ تعلیمی سال کے دوران نیو یورک شہر کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی سلسلہ کمپیوٹر اور آن لائن جاری رہے گا۔ کمپیوٹر، دیگر متعلقہ لوازمات اور انٹرنیٹ کے حصول کے لیے متعلقہ سکولوں سے رابطہ کریں۔

○ سرکاری امداد:

- مرکزی حکومت نے ۲۷ مارچ کو امداد کے نام پر ۲ ٹریلین ڈالر کی رقم کا اعلان کیا ہے۔
- اس رقم کا زیادہ تر حصہ بڑی کارپوریشنوں کو دیا گیا۔
- صرف کچھ رقم ان لوگوں کے لئے ہے جو جینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ صرف سوشل سیکیورٹی نمبر کے حامل افراد ہی اس رقم کے اہل ہیں۔ مبلغ ۱۲۰۰ ڈالر بالغان کے لیے جبکہ بچوں کو ۵۰۰ ڈالر ملیں گے۔ مذکورہ رقم اگلے دو ہفتوں میں اکاؤنٹس میں منتقل یا آپکو ڈاک کے ذریعے ارسال کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی آپکو فون کر کے آپکے ایک بینک اکاؤنٹ کی تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ دھوکہ دہی ہوگی۔

○ دماغی صحت:

- بہت سے لوگوں اس وقت ان وجوہات کی بناء پر ذہنی تناؤ کا شکار ہوں گے اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں۔
- اپنے آرام کو یقینی بنائیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے سکون آور کاموں کے لئے کچھ وقت نکالیں۔
- خود کو ذہنی تناؤ سے دور رکھنے کے لیے مستقل کسی سے باتیں کیا کریں۔
- دماغی صحت سے متعلق کسی بھی مسئلہ پر فون نمبر 888-692-9355 پر رابطہ کریں۔

○ دھوکہ دہی

- خبردار رہیئے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر بہت سے لوگ دھوکہ دہی میں بھی مصروف ہیں۔

1. کبھی اور کسی حالات میں اپنا سوشل سیکیورٹی یا اکاؤنٹ نمبر فون پر، دروازہ پر آئے ہوئے شخص یا نامعلوم ویب سائٹس پر نہ دیں۔

2. کوئی بھی حکومتی ایجنسی یا عہدیدار ٹیکسز کی جانچ پڑتال، کرونا وائرس کی تشخیص، بیروزگاری الاونس یا امدادی چیک دینے کے لیے آپ کے گھر نہیں آسکتا ہے۔

3. کوئی بھی حکومتی ایجنسی یا عہدیدار ٹیکسز کی جانچ پڑتال، کرونا وائرس کی تشخیص، بیروزگاری الاونس یا امدادی چیک دینے کے لیے آپ کو فون کر کے معلومات نہیں لے سکتا ہے۔

4. بیروزگاری فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ کو متعلقہ ادارے کو فون کرنا ہوتا ہے اور وہ خود کبھی آپ سے رابطہ نہیں کرتے۔

5. اس وقت ملک میں جاری مردم شماری کا عمل ہی صرف باعث الجہن اور اسی ادارے کے عہدیداران کو استثناء حاصل ہے اور مردم شماری کے ادارے سے آپکو کال موصول ہو سکتی ہے۔ اس الجہن سے بچنے کے لیے آپ مردم شماری کا فارن آن لائن بھر سکتے ہیں جو کہ <http://my2020census.gov> ہے۔ اور اگر کسی صورت میں کوئی آپ سے بذریعہ ڈاک، فون یا آپ کے دروازے پر مردم شماری سے متعلق پوچھیں تو بتا دیں کہ آپ آن لائن مردم شماری میں حصہ لے چکے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آکر خود کو پولیس یا امیگریشن عہدیدار ظاہر کرے تو ان سے وارنٹ دکھانے پر اصرار کریں۔ اگر ان کے پاس وارنٹ نہیں تو انکو نظرانداز کر کے کبھی دروازہ نہ کھولیں اور انہیں واپس جانے کا کہیں۔

○ اشتعال – ۷ منٹ

1. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک کرونا وائرس کی وجہ سے کیوں بدترین بحران کا شکار ہے؟

- سرکار نے کئی سالوں سے تہیہ کر رکھا ہے کہ صحت عامہ اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کبھی کچھ نہیں کرے گی۔ سرکار کا کہنا ہے کہ بیوپار اور کارپوریشنز ہی تمام چیزوں کا خیال رکھے گی۔
- بیوپار اور کارپوریشنز اگر منافع نہ کما سکیں تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کریں گے۔

- ہمیں اس دور میں ایسے سرکار اور نظام کی ضرورت ہے جو سب سے پہلے عوام کی ضروریات کا خیال رکھے۔
- ہمیں اس سلسلے میں منظم ہونا ہوگا تاکہ مستقبل میں ایسا ممکن ہو۔

2- سب سے پہلے کس کی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ کس کی ضروریات کا خیال سب سے آخر میں یا بالکل بھی نہیں رکھا جا رہا ہے؟

- کارپوریشنز اور امراء کا خیال سب سے پہلے رکھا جا رہا ہے۔
- مرض کی تشخیص اور علاج ان کے لیے نہایت سادہ اور آسان جبکہ باقی شہریوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
- مرض کی علامات نہ ہونے کی صورت میں بھی انکی جانچ پہلے ہوتی ہے جبکہ بڑی پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی غریبوں کو ٹیسٹ تک نہیں کیا جاتا۔
- سرکاری امدادی رقوم کا بیشتر حصہ کارپوریشنز اور بیوپاروں کو، جبکہ ایک معمولی رقم کارکن طبقہ کو دیا جا رہا ہے۔
- مگر یہ بات عیاں ہے کہ معیشت کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ حقیقت میں یہ کام کرنے والے افراد ہیں جن کو اپنے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے۔
- امریکی تاریخ کا یہ ایک نازک دور ہے۔

- ہمیں چیزوں کو بدلنے کے لئے جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ غریب اور محنتی افراد، جو اس ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔
- چیزیں تبدیل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہو اور ہم کوئی کارروائی کریں

1. طاقت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں منظم لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی کام کی انجام دہی کے لئے ہی ہم عوام کو یہ بلاوا دے رہے ہیں۔ اسکا ہدف آپ کو معلومات فراہم کرنا بھی ہے اور آپ کو اس دھارے میں شامل کرنا بھی۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی اس مقصد کے حصول میں شامل کریں۔

2. ہم اپنے گھروں میں موجود رہ کر بھی وہیں سے کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اپنے گھروں سے ہی کالز کر کے اور کرایہ کے خلاف ہڑتال کے لئے درخواستوں پر دستخط کر کے اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے مؤثر کارروائی ہمارے محنت کش طبقے سے شروع ہونگی۔ یکم مئی کو عام ہڑتال کی کال ہوگی۔ لوگوں سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ خریدیں، کام پر نہ جائیں اور کرایہ ادا نہ کریں۔ کیا آپ کسی عام ہڑتال میں حصہ لینے میں دلچسپی لیں گے؟

عمل - ۲ منٹ

1. کیا آپ کو اس گفتگو میں موجود معلومات مفید معلوم ہوئی؟ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری برادریوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد محفوظ ، مطلع اور اپنے اردگرد رونما ہونے والے واقعات سے بھرپور آگاہ ہوں۔ آپ بھی کارروائی کر کے مدد کرسکتے ہیں:

○ ایکشن کالز

■ کرایہ کی منسوخی کے لئے درخواست پر دستخط کریں:

○ <https://actionnetwork.org/petitions/reclaim-our-homes-rent-suspension-now/>

■ مردم شماری کا فارم پر کریں۔ مردم شماری اس بات کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ ہمارے پاس اپنی آبادی کے تناسب پر مبنی صحت عامہ کی دیکھ بھال کی کافی سہولیات اور رسد (اور بھی بہت سی دیگر متعلقہ چیزیں) موجود ہیں۔ اس فارم کو بھرنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں my2020census.gov

1. ہمیں ضرور بتائیے کہ

- آپ پہلے ہی اپنا فارم پر کر چکے ہیں
- آپ خود سے اپنا فارم ر کریں گے
- یا آپ چاہتے ہیں کہ ڈرم سے کوئی کال کر کے فارم پر کرنے میں آپکی مدد کرے

2- اس فارم کو پر کرنے کے بعد ہمیں اپنا نام، پتہ اور فون نمبر بتائیے

3- قانون کے رو سے مردم شماری کا فارم ہر ایک کو پُر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ مردم شماری کرنے والے کارکن، ان لوگوں کے دروازے پر آئیں جنہوں نے ابھی تک مردم شماری میں حصہ نہیں لیا ہے مگر دھوکہ دہی کرنے والے افراد بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ امر لوگوں کے لئے خطرناک اور پریشان کن ہوسکتا ہے۔ اس لئے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ مردم شماری کے فارم کو پہلے سے ہی پُر اور جمع کرا دینا چاہیے تاکہ آپ کے

دروازے کو کوئی دستک نہ دے اور ممکنہ دھوکے بازوں کی فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہو۔

▪ **رابطے:** یہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ محفوظ، تربیت یافتہ اور اپنے آس پاس رونما ہونے والے واقعات سے مکمل آگاہ اور کسی بھی کارروائی کرنے کے لئے انکے پاس درست معلومات موجود ہیں۔

1. کیا آپ مجھے 3 یا 5 یا 10 لوگوں سے رابطہ کرا سکتے ہیں جن کو میں کال کر کے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کروں؟

2. کیا آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ اسے کیسے انجام دیں۔

اختتام – ۱ منٹ

1. مجھ سے بات کرنے اور وقت نکالنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم سب کے لیے نہایت مشکل گھڑی ہے اور اس کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنی حفاظت، اپنے حقوق اور انصاف کے حصول کے لیے اقدامات کریں۔